



OFFICE OF ADMINISTRATIVE TRIALS AND HEARINGS Help Center

"سمن" (پروانہ طلبی) کیا ہے؟

"سمن"، جسے "ٹکٹ" بھی کہتے ہیں، کسی فرد یا کاروباری ادارے کو مطلع کرنے کی ایک دستاویز ہوتی ہے کہ انہیں نیویارک سٹی (New York City) ایجنسی کی جانب سے نیویارک سٹی کے قانون، اصول یا ضابطے کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر چارج کیا گیا ہے اور بتاتی ہے کہ وہ، یا ان کا نمائندہ، ایک مخصوص تاریخ پر اس چارج کا جواب دینے کے لیے OATH میں لازمی طور پر حاضر ہوں۔ سمن آپ کو ذاتی طور پر، ڈاک کے ذریعے بھجوایا جا سکتا ہے، یا آپ کے احاطے کے دروازے پر "پوسٹ" (یعنی چسپاں) کیا جا سکتا ہے۔

جس طریقے سے سمن آپ تک بھجوایا گیا اسے "سروس" کہتے ہیں۔ سروس اہم ہے کیونکہ اس بارے میں کچھ مخصوص اصول ہیں کہ سمن کو کس طرح بھجوانا ہے۔

وہ طریقہ جس کے ذریعے سمن آپ تک بھجوایا جاتا ہے اس کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم OATH ہیلپ سینٹر کے نمائندے سے بات کریں۔

سمن میں کون سی معلومات شامل ہونا لازمی ہیں؟

1. اس شخص یا کاروباری ادارے کا نام اور پتہ (اگر معلوم ہو) جس پر خلاف ورزی کا چارج لگایا گیا ہے۔ وہ شخص یا کاروباری ادارہ "مدعا علیہ" کہلاتا ہے۔
2. مدعا علیہ کو "بنیادی حقائق" جو کہ مبینہ طور پر عائد کردہ خلاف ورزی/خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہوں بشمول تاریخ، جگہ اور وقت کے حوالے سے مطلع کرنے کے لیے "معقول حد تک ایک واضح اور جامع بیان"۔
3. مدعا علیہ کے لیے "ایسے قانون کے سیکشن یا سیکشنز، ضابطے یا اصول جن کی مبینہ طور پر خلاف ورزی کی گئی ہو، اس کے بارے میں مخصوص اطلاع" کی معقول معلومات۔
4. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مدعا علیہ خلاف ورزی/خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے لیے "زیادہ سے زیادہ سزا کے تعین" کی معقول معلومات جس کا اس نے سامنا کرنا ہے۔
5. سماعت کے لیے مقررہ تاریخ، وقت اور مقام بتانے کے لیے مدعا علیہ کو نوٹس۔ تاریخ سمن کے جاری ہونے کے کم از کم پندرہ (15) کیلنڈر دنوں کے بعد کی ہونا لازمی ہے، لیکن، مدعا علیہ سماعت کو جلد مقرر کروانے کی درخواست کر سکتا/سکتی ہے۔
6. مدعا علیہ کو نوٹس کہ اگر وہ سماعت میں حاضر ہونے میں ناکام ہوتا/ہوتی ہے، تو انہیں حکم عدولی کا مرتکب سمجھا جائے گا اور "خلاف ورزی میں ملوث" تسلیم کیا جائے گا۔
7. مدعا علیہ کو OATH کے اصولوں کے تحت اس کے حقوق سے مطلع کرنے کے لیے مناسب معلومات۔

اگر آپ کے سمن میں مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی معلومات موجود نہیں، تو آپ کے مفاد میں یہ بہتر ہو گا کہ آپ اپنی OATH سماعت کے دوران اس مسئلہ پر تبادلہ خیال کریں۔